



مجلسِ اسلامی
محدث فتاویٰ

سوال

ایک سورہ کا تکرار اور ایک رکن کی دوسرے کی نسبت طوالت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز میں ایک ہی سورہ کے تکرار کا کیا حکم ہے؟ رکوع کی نسبت سجدہ کی طوالت کا کیا حکم ہے؟ اور ایک رکعت کے دوسری کی نسبت طویل ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز میں ایک ہی سورہ کے تکرار میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ خلافت اولیٰ ہے اولیٰ وافضل یہ ہے کہ آپ کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ خواہ ایک ہی رکعات کا معاملہ ہو یا دو رکعات کا کیونکہ عہد نبوت سے اب تک معمول یہ چلا آ رہا ہے۔ کہ قاری ایک رکعت میں ایک سورت یا کسی سورت کی چند آیات پڑھتا ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں کوئی دوسری سورت اور کوئی دیگر آیات پڑھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ارشاد باری تعالیٰ:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... سورة المزمل

"جتنا آسانی سے ہو سکے (استنا) قرآن پڑھ لیا کرو۔"

کے عموم کے پیش نظر تکرار میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے حسب نشاط رکوع و سجود کی طوالت جائز ہے۔ لیکن امام کے لئے رکوع و سجود کے کمال کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ تین بار کسے ((سبحان ربی الاعلیٰ)) اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ یہ کلمہ دس بار کسے۔ اور مقتدی اس وقت تک تسبیح کہتا رہے جب تک اس کا امام رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ بعض رکعات کو بعض دیگر کی نسبت لمبا کرنا بھی جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ قراءت کے اعتبار سے پہلی رکعت دوسری سے زیادہ لمبی ہو اور رکوع و سجود جیسے ارکان قریباً ایک جیسے ہوں۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ



ج 1 ص 400

محدث فتویٰ